



## قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے ہائی پرفارمنس کیمپ کا آغاز پیر سے ہوگا

- کیمپ کا مقصد جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں شریک کھلاڑیوں کی خامیوں پر قابو پانا ہے، علی ضیاء

لاہور، 20 جولائی 2019ء :

قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں پر مشتمل پی سی بی کا ہائی پرفارمنس کیمپ 22 جولائی سے نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں شروع ہوگا۔ کیمپ کے دوران کھلاڑیوں کی خامیوں پر قابو پانے کی کوشش کی جائے گی۔ کیمپ میں شریک 17 کھلاڑی 21 جولائی کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں رپورٹ کریں گے۔

کیمپ کا مقصد جنوبی افریقہ انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے خلاف وائٹ واش کرنے والے قومی کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے۔ چھ ہفتوں پر مشتمل کیمپ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 22 جولائی سے شروع ہونے والے کیمپ کا پہلا حصہ عید الضحیٰ سے قبل مکمل ہو جائے گا، جہاں تینوں فارمیٹ کے اعتبار سے کھلاڑیوں کی صلاحیتوں میں نکھار لانے کے لیے خصوصی محنت کی جائے گی۔

کیمپ کا دوسرا حصہ عید کی چھٹیوں کے بعد شروع ہوگا، جس میں مختلف پریکٹس میچز کا انعقاد کیا جائے گا۔ کیمپ کا مقصد قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو ستمبر میں شیڈول ایشیا کپ اور آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈکپ 2020ء کے لیے بھی تیار کرنا ہے۔

اس موقع پر سینیئر جنرل مینیجر اکیڈمی پی سی بی علی ضیاء کا کہنا ہے " ہم نے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا ہے۔ کوچ کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ کی روشنی میں کھلاڑیوں کی خامیوں پر قابو پانے کی کوشش کریں گے۔"

"قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی تیاری کیلئے ریجنل اکیڈمیز کے کھلاڑیوں کو بھی کیمپ میں طلب کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو قومی انڈر 19 سکواڈ میں شامل کیا جاسکتا ہے۔"

علی ضیاء کا مزید کہنا ہے "بیٹسمینوں کی دفاعی قابلیت میں اضافہ کے لیے ہم کیمپ میں کھلاڑیوں کو خصوصی طور پر سرخ رنگ کے گیند سے بھی پریکٹس کروائیں گے۔ ایشیا کپ کے لیے قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے انتخاب کے لیے جونیئر سلیکشن کمیٹی بھی کیمپ میں کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لے گی۔"

جنوبی افریقہ میں ٹیم کی کارکردگی پر تبصرہ کرتے ہوئے سینیئر جنرل منیجر اکیڈمیز پی سی بی نے کہا "میزبان ٹیم کے خلاف نوجوان کھلاڑیوں نے وائٹ واش کر کے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا جو آئندہ سال جنوبی افریقہ میں شیڈول آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈکپ کی تیاریوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اس سے قبل قومی کھلاڑیوں نے سری لنکا کی سپن پچز پر بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔"

ہائی پرفارمنس کیمپ میں طلب کئے گئے کھلاڑیوں میں روحیل نذیر (اسلام آباد) ، حیدر علی (راولپنڈی) ، عباس آفریدی (فاٹا) ، اختر شاہ (کوئٹہ) ، عامر علی (لاڑکانہ) ، باسط علی (ملتان) ، فہد منیر (لاہور) ، عرفان نیازی (فیصل آباد) ، محمد عامر (پشاور) ، محمد حارث (پشاور) ، محمد وسیم (فاٹا) ، نسیم شاہ (لاہور) ، قاسم اکرم (لاہور) ، صنم ایوب (کراچی) ، شیراز خان (راولپنڈی) ، نیاز خان (پشاور) اور خیام خان (ایبٹ آباد) شامل ہیں۔

ریجنل اکیڈمیز میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے کھلاڑی کو بھی ہائی پرفارمنس کیمپ میں طلب کیا جاسکتا ہے۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad  
Editor – Urdu Content  
Media and Communications  
E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)  
M: +92 (0) 345 474 3486  
W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

#### ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



[www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk) ●  
@therealpcb ●  
@PakistanCricketBoard ●  
@PakistanCricketOfficial ●  
@therealpcb ●

**PCB Headquarters**  
Gaddafi Stadium  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4